



Press Release

February 25, 2017

For immediate release

Secretary Finance assures SECP full support to eradicate market abuse

Islamabad, February 25: Federal Secretary for Finance and Chairman SECP's Policy Board, Tariq Bajwa commended SECP's recent enforcement measures to curb financial scams including insider trading and other market malpractices. Mr. Bajwa assured the apex regulator of his full support to eradicate market abuse and restore the investor confidence.

He was chairing a high-level meeting at the SECP head office on Saturday. Chairman SECP Zafar Hijazi, Commissioners and Executive Directors of the SECP attended the meeting. The Chairman SECP updated the Secretary on the legal and regulatory actions taken by SECP against those involved in market abuse.

During the meeting, the federal secretary was briefed on the SECP's functions and responsibilities and its proactive role towards creation of a fair and efficient corporate sector, capital market, non-bank financial sector, Islamic finance and insurance. Zafar Hijazi highlighted the reforms and policy aspects introduced by the regulator for the development of corporate sector, capital market, non-bank financial sector and insurance.

He was also briefed on the efforts being made by the SECP to promote Islamic finance industry and initiatives for managing the systemic risk using methodical approaches for protecting the investor interest. Moreover, tax proposals currently being evaluated by the SECP also came into consideration. The Federal Secretary guided SECP on these measures and advised the SECP to proactively work with FBR in this regard.

The finance secretary appreciated the SECP's efforts and reforms introduced for the development of capital markets. He also lauded the SECP's effective implementation of relevant rules and regulations, development of efficient financial markets and other endeavors aimed at building of the Pakistani financial and capital markets with particular reference to the significant feature of divestment of 40 % strategic shareholding in PSX.

وفاقی سیکٹری خزانہ طارق باجوہ کا ایس ای سی پی کا دورہ

سیکٹری خزانہ کی کیپٹل مارکیٹ میں بدعنوانیوں کے خاتمے کے لئے ایس ای سی پی کے اقدامات کی تعریف، وفاقی حکومت کے مکمل تعاون کی یقین دہانی

اسلام آباد (۲۵ فروری) وفاقی سیکٹری برائے خزانہ طارق باجوہ نے کیپٹل مارکیٹ میں بے ضابطگیوں اور بدعنوانیوں کی روک تھام اور مارکیٹ پر عوام اور سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال کرنے کے لئے سکیورٹیز اینڈ ایکس چینج کمیشن آف پاکستان کی جانب سے کئے جانے والے اقدامات کو سراہا اور مارکیٹ کو مضبوط بنیادوں پر مستحکم کرنے اور خاص طور پر چھوٹے سرمایہ کاروں کے تحفظ کے لئے ایکس ریگولیٹر کو وفاقی حکومت کے مکمل تعاون کا یقین دلایا۔ وہ ہفتہ کے روز ایس ای سی پی کے ہیڈ آفس میں ایک اعلیٰ سطحی اجلاس کی صدارت کر رہے تھے۔

اجلاس میں ایس ای سی پی کے چیئر مین ظفر حجازی، کمشنروں اور ادارے کے ایگزیکٹو ڈائریکٹوں نے شرکت کی۔ اجلاس میں وفاقی سیکٹری خزانہ کو ایس ای سی پی کی جانب سے کیپٹل مارکیٹ میں بدعنوانیوں میں ملوث اور بے ضابطگیوں کے مرتکب افراد اور اداروں کے خلاف کئے جانے والے اقدامات سے آگاہ کیا گیا۔ سیکٹری خزانہ نے ایس ای سی پی کی جانب سے کئے گئے ریگولیٹری ایکشن خاص طور پر سرمایہ کاروں سے دھوکہ اور فراڈ کرنے والوں اور ان سائبرڈ ٹریڈنگ میں ملوث افراد کے خلاف بروقت کارروائی کو سراہا۔

سیکٹری خزانہ کو ایس ای سی پی کے مختلف محکموں کی جانب سے کیپٹل مارکیٹ، انشورنس، غیر مالیاتی بینکنگ سیکٹر، اسلاک فننس اور کارپوریٹ سیکٹر کے لئے ریگولیٹری فریم ورک اور ان شعبوں اور کیپٹل مارکیٹ میں شفافیت اور استحکام لانے کے لئے ایس ای سی پی کے اصلاحات کے پروگرام اور پالیسیوں پر بریفنگ دی گئی۔ ملک میں اسلامی مالیاتی شعبہ کے فروغ اور سرمایہ کاروں کے تحفظ کے لئے رسک مینجمنٹ کے نئے ماڈل اور سسٹم سے بھی آگاہ کیا گیا۔ اس کے علاوہ اجلاس میں ایس ای سی پی کی جانب سے ملک میں کارپورائزیشن اور دستاویزی معیشت کے فروغ ترتیب دی گئی ٹیکس تجاویز پر بھی غور کیا گیا۔ طارق باجوہ نے ایس ای سی پی کی ٹیکس تجاویز پر اپنی آرا سے آگاہ کیا اور اس سلسلے میں ایس ای سی پی کو فیڈرل بورڈ آف ریونیو کے ساتھ مل کر کام کرنے کی ہدایت کی۔

طارق باجوہ نے ملک کے کارپوریٹ سیکٹر اور کیپٹل مارکیٹ میں کی جانے والی اصلاحات اور ریگولیٹری فریم ورک کو مضبوط اور مستحکم بنانے کے لئے متعلقہ قوانین اور قواعد و ضوابط کو از سر نو تشکیل دینے اور نئے قوانین کو بھرپور طریقے سے نافذ کرنے کے لئے ایس ای سی پی کی کوششوں کی تعریف کی۔ انہوں نے کہا گزشتہ دو سال میں ایس ای سی پی کی ان اصلاحات کے نتیجے میں ملک میں ایک جدید کیپٹل مارکیٹ کی بنیاد رکھ دی ہے۔ اس حوالے سے پاکستان اسٹاک ایکس چینج کی ڈی میوچلائزیشن کی تکمیل اور اسٹاک ایکس چینج کے چالیس فیصد حصص کی اسٹریٹیجک حصہ داری کا حصول ایک اہم سنگ میل ہے۔